

القرآن الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں کے شر سے

المنزل- ۲

آیاتھا - ۱۵۹ , زکوٰۃ غائھا - ۱۸

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ - ۹

سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ (مَكِّي)

آیاتھا- ۲۰۶

زکوٰۃ غائھا- ۲۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ
الْمُنْفِئِينَ قَرِيْبَتَنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا قَالَ اَوْلُوْا كُنَّا كَارِهِيْنَ ۝۸۸

اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ۸۸
انہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنے شہر سے ضرور نکال دیں گے
یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ فرمایا کیا اگرچہ ہم اس دین کو
ناپسند کرنے والے ہوں ۲- المنزل

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ
لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۝۸۹

ہم تو اللہ پر بہتان باندھنے والے ہو جائیں اگر تمہارے مذہب میں ۸۹
واپس آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے اور ہمیں
یہ حق نہیں کہ تمہارے دین میں لوٹ کر آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو
ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے ہم
اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے

درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخُسْرُونَ ﴿٩٠﴾
اس کی قوم میں جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا اگر تم شعیب کی تابعداری کرو گے تو بے شک نقصان اٹھاؤ گے

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٩١﴾
پھر انہیں زلزلہ نے آپکڑا پھر وہ صبح تک اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمَّا يَغْنَأُ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گو وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِيتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾

پھر ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی اور تمہاری قوم پر میں کیوں کر غم کھاؤں

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَضُرَّ عُونٌ ﴿٩٤﴾

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے ﴿٩٤﴾
لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ
وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو ﴿٩٥﴾
گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی
کا وقت آیا تھا پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑا اور ان کو خبر نہ ہوئی

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان ﴿٩٦﴾
اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے
جھٹلایا پھر ہم نے ان کے اعمال کے سبب سے گرفت کی

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾

کیا بستی والے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رات کو ﴿٩٧﴾
عذاب آئے جب وہ سو رہے ہوں

أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

یا بستییوں والے اس بات سے نڈر ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب 98
دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں

۹۹ ؕ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۙ

کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر ہوئے ہیں بس اللہ کی اچانک 99
پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں پس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر
۱۰۰ نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے

أُولَٰئِكَ يَهْدِي اللَّهُ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِيهَا أَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٍ أَن لَوْ نَشَاءُ لَصَبَّأَهُمْ لِيَبْذُلُوا بِذُنُوبِهِمْ
ۙ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۙ 100

کیا ان لوگوں پر جو زمین کے وارث ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں 100
کے ہلاک ہونے کے بعد یہ ظاہر نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان
کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیں اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا
دی ہے پس وہ نہیں سنتے

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكٰفِرِينَ ۙ 101
یہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تمہیں سناتے ہیں بے شک ان کے 101
پاس ان کے رسولوں روشن نشانیاں لے کر آئے تھے پھر اس بات پر ہرگز
ایمان نہ لائے جسے پہلے جھٹلا چلے تھے کافروں کے دلوں پر اللہ
اسی طرح مہر لگا دیتا ہے

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِينَ ۙ 102

اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نباہ نہیں پایا اور ان میں ¹⁰² سے اکثر نافرمان پایا

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ¹⁰³

اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس ¹⁰³ کے سرداروں کی طرف بھیجا پھر انہوں نے نشانیوں سے بے انصافی کی پھر دیکھ مفسدوں کا انجام کیا ہوا

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرُّ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ¹⁰⁴

اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف ¹⁰⁴ سے رسول ہو کر آیا ہوں

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ¹⁰⁵

میرے لیے یہی مناسب ہے کہ سوائے سچ کے کوئی بات خدا کی ¹⁰⁵ طرف منسوب نہ کروں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل لایا ہوں پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ¹⁰⁶

کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لا اگر تو سچا ہے ¹⁰⁶

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ¹⁰⁷

پھر اس نے اپنا عصا ڈال دیا وہ اس وقت صریح اڑدھا ہو گیا ﴿۱۰۷﴾

وَوَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظْرِينَ ﴿۱۰۸﴾

اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید نظر ﴿۱۰۸﴾
سرع آنے لگا

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۹﴾

فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ بڑا ماہر جادو گر ﴿۱۰۹﴾
ہے

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۱۱۰﴾

تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے پس تم کیا مشورہ دیتے ہو ﴿۱۱۰﴾

قَالُوا آرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۱۱۱﴾

انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں ﴿۱۱۱﴾
میں جمع کرنے والے بھیج دے

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿۱۱۲﴾

تاکہ تیرے پاس ماہر جادوگر کو لے آئیں ﴿۱۱۲﴾

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۳﴾

اور جادوگر فرعون کے پاس آئے کہا اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کچھ ﴿۱۱۳﴾
صلہ بھی ملے گا

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۱۱۴﴾

کہا ہاں اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے ⑩④

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ⑩⑤

کہا اے موسیٰ یا تو تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں ⑩⑤

قَالَ الْقَوْمَ فَلَمَّا آلَقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ

⑩⑥

کہا تم ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ⑩⑥
انہیں ڈرایا اور اک طرح کا بڑا جادو دکھایا

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ⑩⑦ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ⑩⑦

اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا اپنا عصا ڈال ⑩⑦
دے سو وہ اسی وقت نکلنے لگا جو کھیل انہوں نے بنا رکھا تھا

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑩⑧

پھر حق ظاہر ہو گیا اور جو انہوں نے بنایا تھا وہ غلط ہو گیا ⑩⑧

فَعَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَعِرِينَ ⑩⑨

پھر اس جگہ ہار گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے ⑩⑨

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ⑩⑩

اور جادوگر سجدہ میں گر پڑے ⑩⑩

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩⑪

کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے ﴿۱۲۱﴾

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۲۲﴾

جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ﴿۱۲۲﴾

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَّرْتُمْوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ
لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

فرعون نے کہا تم اس پر میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے ﴿۱۲۳﴾
یہ تو مکر ہے جو تم سب نے اس شہر میں بنایا ہے تاکہ اس شہر کے
رہنے والوں کو نکال دو سو اب تمہیں معلوم ہو جائے گا

لَا قَطْعَنَ اَيْدِيكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لاصَلْبَتِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲۴﴾
میں ضرور تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا پھر ﴿۱۲۴﴾
تم سب کو سولی چڑھا دوں گا

قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۲۵﴾

انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے ﴿۱۲۵﴾

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِآيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا
مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

اور تمہیں ہم سے یہی دشمنی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو ﴿۱۲۶﴾
مان لیا جب وہ ہمارے پاس آئیں اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال
اور ہمیں مسلمان کر کے موت دے

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَالْهِتَكَ ط قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ؕ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی ﴿١٢٧﴾
قوم کو چھوڑتا ہے تاکہ وہ ملک میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے
معبودوں کو چھوڑ دے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان
کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ لَآتِفٌ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے ﴿١٢٨﴾
شک زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث
بنا دے اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ
عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ؕ ﴿١٢٩﴾

انہوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور ﴿١٢٩﴾
تیرے آنے کے بعد بھی فرمایا تمہارا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو
ہلاک کر دے گا اور اس کی بجائے تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے
ہے گا پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

اور ہم نے فرعون والوں کو قحطوں میں اور میوں کی کمی میں پکڑ ⁽¹³⁰⁾
لیا تاکہ وہ نصیحت مانیں

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ
مَعَهُ ۗ إِلَّا إِنَّمَا طَّيَّرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⁽¹³¹⁾
جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی ⁽¹³¹⁾
چاہیئے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے
ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے علم میں
ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ⁽¹³²⁾
اور کہا جو کوئی نشانی تو ہمارے پاس لائے گا ہم پر اس کے ذریعہ ⁽¹³²⁾
سے جادو کرے سو ہم تجھ پر ہر گز ایمان نہ لائیں گے

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ ^{تف}
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ⁽¹³³⁾

پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون یہ ⁽¹³³⁾
سب کھلے کھلے معجزے بھیجے پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور
لوگ گناہگار تھے

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُمُوسَىٰ اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيُنزِلَ
كَشْفَتْنَا عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَ لَكَ وَلِنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ⁽¹³⁴⁾

اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے ⑬④
 رب سے دعا کر جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے اگر تو نے
 ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو بے شک ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے
 اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ⑬⑤

پھر جب ہم نے ان سے ایک مدت تک عذاب اٹھا لیا کہ انہیں اس مدت ⑬⑤
 تک پہنچنا تھا اس وقت وہ عہد توڑ ڈالتے

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ⑬⑥

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر ہم نے انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے ⑬⑥
 کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا
 فِيهَا ⑬⑦ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا
 كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ⑬⑧

اور ہم نے ان لوگوں کو وارث کر دیا جو اس زمین کے مشرق و ⑬⑦
 مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے کہ جس میں ہم نے برکت
 رکھی ہے اور تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان
 کے صبر کے باعث پورا ہو گیا اور فرعون اور اس کی قوم نے جو
 کچھ بنایا تھا ہم نے اسے تباہ کر دیا اور جو وہ اونچی عمارتیں بناتے

تھے

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا
يُمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو ایک ایسی قوم پر ﴿١٣٨﴾
پہنچے جو اپنے بتوں کے پوجنے میں لگے ہوئے تھے کہا اے موسیٰ
ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں فرمایا بے
شک تم لوگ جاہل ہو

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

یہ لوگ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہے اور جو ﴿١٣٩﴾
وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے

قَالَ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

کہا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے اور معبود بنا دوں حالانکہ اس نے ﴿١٤٠﴾
تمہیں سارے جہاں پر فضیلت دی ہے

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو ﴿١٤١﴾
تمہیں برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو مار ڈال دیتے تھے اور
تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا

ع۶ احسان تھا

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمَ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ

مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

اور موسیٰ سے ہم نے تیس رات کا وعدہ کیا اور انہیں اور دس سے ﴿١٤٢﴾ پورا کیا پھر تیرے رب کی مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا جانشین رہ اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں کی راہ پر مت چل

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ ط قَالَ لَنْ تَرَانِي

وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ط فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ

لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ط فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا

أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ﴿١٤٣﴾ ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا کہ تو مجھے ہر گز نہیں دیکھ سکتا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے میں تیری جانب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں

قَالَ يٰمُوسَىٰ اِصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۗ فَخُذْ مَا آتَيْتَكَ وَكُنْ
مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے ﴿١٤٤﴾
لوگوں پر تجھے امتیاز دیا ہے جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے
اسے لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ
وَأَمَرَ قَوْمَكُ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

اور ہم نے اسے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی ﴿١٤٥﴾
تفصیل لکھ دی سو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے او اپنی قوم کو حکم
کر کہ اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا
ٹھکانہ دکھاؤں گا

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا
يُؤْمِنُوا بِهَا ۗ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۗ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿١٤٦﴾

پھر میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر ﴿١٤٦﴾
کرتے ہیں اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں
لائیں گے اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راہ نہیں بنائیں
گے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے
بے خبر رہے

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان ﴿١٤٧﴾ کے اعمال ضائع ہو گئے انہیں وہی سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑا بنا لیا ﴿١٤٨﴾ ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں راہ بتاتا ہے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

اور جب نادم ہوئے اور معلوم کیا کہ بیشک وہ گمراہ ہو گئے تھے تو ﴿١٤٩﴾ کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَوْاحِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي ^ط فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⁽¹⁵⁰⁾

اور جب موسیٰ اپنی قوم کے ی طرف غصہ اور رنج میں بھرے ⁽¹⁵⁰⁾ ہوئے واپس آئے تو فرمایا تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اسے پنی طرف کھینچنے لگا اس نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے مار ڈالیں سو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے گناہگار لوگوں میں نہ ملا

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَإِلَٰخِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ^ط وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ⁽¹⁵¹⁾
کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں ⁽¹⁵¹⁾ اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

ع۸

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ⁽¹⁵²⁾

بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہیں ان کے رب کی ⁽¹⁵²⁾ طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی اور ہم بہتان باندھنے والوں کو یہی سزا دیتے ہیں

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے لے
آئے تو بے شک تیرا رب توبہ کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۚ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیوں کو اٹھایا اور جو
ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ان کے واسطے ہدایت اور رحمت تھی جو
اپنے رب سے ڈرتے ہیں

وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ
شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلِ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا
فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر مرد ہمارے وعدہ گاہ پر لانے
کے لیے چن لیے پھر جب انہیں زلزلہ نے پکڑا تو کہا اے میرے رب
اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا کیا تو ہمیں اس کام پر
ہلاک کرتا ہے جو ہماری قوموں کے بیوقوفوں نے کیا یہ سب تیری
آزمائش ہے جسے تو چاہے اس سے گمراہ کر دے اور جسے چاہے

سیدھا رکھے تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر
رحم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے

وَ اَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِيْٓ اَصِيبُ
بِهٖ مَنْ اَشَاءُ ع وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُوْتُوْنَ
الزَّكٰوَةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِآيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ع (156)

او ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ ہم نے تیری (156)
طرف رجوع کیا فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں کرتا ہوں اور
میری رحمت سب چیزوں سے وسیع ہے پس وہ رحمت ان کے لیے
لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اجور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں
پر ایمان لاتے ہیں

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَہٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰتِ
وَ الْاِنْجِيْلِ ن يٰۤاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ
وَ يَحْرِمُهُمْ عَلَيْهِمْ الْخَبِيْثٰتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَ عَزَّوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنزِلَ مَعَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُوْنَ ع (157)

وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں اور جو نبی امی ہے (157)
جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیکی
کا حکم کرتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے اور ان کے لیے سب پاک
چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان

پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی اور اسے مدد دی اور اس کے نور کے تابع ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے یہی لوگ نجات پانے والے ہیں

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

کہہ دو اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی حکومت ﴿١٥٨﴾ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ

وَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی راہ بتاتے ﴿١٥٩﴾ ہیں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں

وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ ۖ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا بارہ دادوں کی اولاد جو بڑی بڑی ۱۶۰
 جماعتیں تھیں اور موسیٰ کو ہم نے حکم بھیجا جب اس کی قوم نے اس
 سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس سے بارہ چشمے
 پھوٹ نکلے ہر قبیلہ نے اپنے گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر ابر کا
 سایہ کیا اور ہم نے من و سلویٰ اتارا ہم نے جو ستھری چیزیں تمہیں
 دی ہیں وہ کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی
 نقصان کرتے تھے

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا
 الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۗ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۱۶۱

اور جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور وہاں ۱۶۱
 جہاں سے تم چاہو کھاؤ اور زباں سے یہ کہتے جاؤ توبہ ہے اور
 دروازہ میں جھک کر داخل ہو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے
 اور نیکو کاروں کو اور زیادہ اجر دیں گے

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنْ
 السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۱۶۲

سو ان میں سے ظالموں نے دوسرا لفظ اس کے سوا بدل دیا جو ان ۱۶۲
 سے کہا گیا تھا پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ
 اوعظلم کرتے تھے

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ
تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ
نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

اور ان سے اس بستی کا حال پوچھ جو دریا کے کنارے پر تھی جب ①٦٣
ہفتہ کے معاملہ میں حد سے بڑھنے لگے جب ان کے پاس مچھلیاں
ہفتہ کے دن پانی کے اوپر آنے لگیں اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی
تھیں ہم نے انہیں اس طرح آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۗ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۗ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۖ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا ان لوگوں کو کیوں ①٦٤
نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں سخت عذاب
دینے والا ہے انہوں نے کہا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے
لیے اور شاید کہ یہ ڈر جائیں

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
بِعَذَابٍ بَّيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی تو ہم ①٦٥
نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو
ان کی نافرمانی کے باعث برے عذاب میں پکڑا

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾

پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے روکے ①⑥۶
گئے تھے تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل ہونے والے بندر ہو جاؤ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ إِنَّ
رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ①⑥۷

اور یاد کر جب تیرے رب نے خبر دی تھی کہ یہودیہر قیامت کے دن ①⑥۷
تک ایسے شخص کو ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتا
رہے بے شک تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور تحقیق وہ
بحسنے والا مہربان ہے

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ①⑥۸

اور ہم نے انہیں ملک میں مختلف جماعتوں میں متفرق کر دیا بعضے ①⑥۸
ان میں سے نیک ہیں اور بعضے اور طرح کے اور ہم نے انہیں
بھلائیوں اور برائیوں سے آزما یا تاکہ وہ لوٹ آئیں

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرَ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ
أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَاللَّهُمَّ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ①⑥۹

پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے ①⑥۹
اس ادنیٰ زندگی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں

معاف کر دیا جائے گا اور اگر ایسا ہی مال ان کے سامنے پھر آئے تو اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لے لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا سچ کے اور کچھ نہ کہیں اور انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے پڑھا ہے اور آخرت کا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾
 اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کریں گے

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے اور وہ ڈرے کہ ان پر گرے گا ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پر بیزگار ہو جاؤ

۱۱ع

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں

انہوں نے کہا ہاں ہے ہم اقرار کرتے ہیں کبھی قیامت کے دن کہنے
لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا
فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

یا کہنے لگو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان ﴿١٧٣﴾
کے بعد ان کی اولاد تھے کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو
گمراہوں نے کیا

وَكَذَلِكَ نَقُصُّكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

اور اسی طرح ہم کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں ﴿١٧٤﴾

وَآتُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْنَا مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں ﴿١٧٥﴾
پھر وہ ان سے نکل گیا پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں
میں سے ہو گیا

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند ⁽¹⁷⁶⁾ کرتے لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا اس پر تو سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کریں

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ⁽¹⁷⁷⁾
 جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی بری مثال ہے اور وہ اپنا ⁽¹⁷⁷⁾ ہی نقصان کرتے رہے

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ⁽¹⁷⁸⁾
 جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی راہ پاتا ہے اور جسے گمراہ کر ⁽¹⁷⁸⁾ دے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ^ز
 وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ^ن وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ^ط أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ^ط أُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ⁽¹⁷⁹⁾

اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں ان ⁽¹⁷⁹⁾ کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو اسے انہیں ناموں سے ﴿١٨٠﴾
پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار
کرتے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے

ع۱۱۷ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے جو ﴿١٨١﴾
ع۱۱۷ سچی راہ بتاتی ہے اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں ﴿١٨٢﴾
گے ایسی جگہ سے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہو گی

وَأْمَلِي لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

اور میں انہیں مہلت دوں گا بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے ﴿١٨٣﴾

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بَصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو جنوں تو نہیں ہے وہ ﴿١٨٤﴾
تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَّ اَنْ

عَسَىٰ اَنْ يُّكُوْنَ قَدْ اَقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۗ فَبِآيٍ حٰدِثٍۭۢ بَعْدَهَا يَوْمٍۭ۟ۢ مِّنْهُنَّ ﴿١٨٥﴾

اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا اور ﴿۱۸۵﴾
 دوسری چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان
 کی اجل قریب ہی ہو پھر قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں
 گے

مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۶﴾

جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں ﴿۱۸۶﴾
 اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں حیران پھیریں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا
 لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ

كَأَنَّهُمْ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾
 قیامت کے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کونسا وقت ﴿۱۸۷﴾

ہے کہہ دو اس کی خبر تو میرے رب ہی کے ہاں ہے وہی اس کے
 وقت پر ظاہر کر دکھائے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری بات ہے
 وہ تم پر محض اچانک آجائے گی تجھ سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس
 کی تلاش میں لگا ہوا ہے کہہ دو اس کی خبر خاص اللہ ہی کے ہاں ہے
 لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
 لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۗ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ

کہہ دو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ ۱۸۸
 چاہے اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں
 حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی میں تو محض ڈرانے والا
 ۱۳ع اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان دار ہیں

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا
 تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ
 آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۱۸۹

وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس ۱۸۹
 کا جوڑ بنایا تاکہ اس سے آرام پائے پھر جب میاں نے بیوی سے ہم
 بستری کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا پھر اسے لیے پھرتی رہی
 پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تب دونوں میاں بیوی نے اللہ سے جو ان کا
 مالک ہے دعا کی اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم
 ضرور شکر گزار ہوں گے

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۱۹۰
 پھر جب اللہ نے انکو صحیح سالم اولاد دی تو اللہ کی دی ہوئی ۱۹۰
 چیزوں میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے سو اللہ ان کے شرک
 سے پاک ہے

أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۱۹۱

کیا ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھھی نہیں بنا سکتے اور وہ ①۹۱
خود بنائے ہوئے ہیں

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ①۹۲

اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ①۹۲
ہیں

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ
صُمُّونَ ①۹۳

اور اگر تم انہیں راستہ کی طرف بلاؤ تو تمہاری تابعداری نہ کریں ①۹۳
برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا چپکے رہو

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①۹۴

بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے ①۹۴
بندے ہیں پھر انہیں پکار کر دیکھو پھر چاہے کہ وہ تمہاری پکار کو
قبول کریں اگر تم سچے ہو

أَلَمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطُشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ
بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ ①۹۵
 پکڑیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن
 سے وہ سنیں کہ تو اپنے شریکوں کو پکارو پھر میری برائی کی تدبیر
 کرو پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۗ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ①۹۶

بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیکو ①۹۶
 کاروں کی حمایت کرتا ہے

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ①۹۷

اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی ①۹۷
 جان کی مدد کر سکتے ہیں

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۚ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

①۹۸

اور اگر تم انہیں راستہ کی طرف پکارو تو وہ کچھ نہیں سنیں گے ①۹۸
 اور تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں
 دیکھتے

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ①۹۹

درگزر کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے الگ رہ ①۹۹

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ②۰۰

اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی ②00
پناہ مانگ لیا کر بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ②01
بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان ②01
کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں پھر اچانک ان
کیا نکھیں کھل جاتی ہیں

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَ لَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ②02

اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے ②02
جاتے ہیں پھر وہ باز نہیں آتے

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بٰآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هٰذَا
بَصَآئِرٌ مِّن رَّبِّيكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ②03

اور جب تو ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتا تو کہتے ہیں کہ تو ②03
فلاں معجزہ کیوں نہیں لایا کہہ دو میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ
پر میرے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے یہ تمہارے رب کی طرف
سے بہت سی دلیلیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے
جو ایمان دار ہیں

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ②04

اور جب قرآن پڑھا جاتا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو ②04
تاکہ تم پر رحم کیا جائے

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتا ہوا اور ڈرتا ہوا یاد کرتا ﴿٢٠٥﴾
رہ اور صبح اور شام بلند آواز کی نسبت ہلکی آواز سے اور غافلوں
سے نہ ہو

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

الفلاحة السجدة ١٣ ع

بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں ﴿٢٠٦﴾
کرتے اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے

الفلاحة السجدة ١٣ ع ہیں

زَكَوٰتُهَا-١٠	سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ(مَدَنِي)	اَيَاتُهَا-٧٥
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

تجھ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دے غنیمت کا مال اللہ اور ﴿١﴾
رسول کا ہے سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس
کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان دار ہو

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں ② اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ③

وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں ③ سے خرچ کرتے ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④

یہی سچے ایمان والے ہیں ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجے ④ ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ⑤ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ ⑥

جیسے تیرے رب نے تیرے گھر سے سچائی کے ساتھ نکالا اور بے ⑤ شک ایک جماعت مسلمانوں میں سے نا پسند کرنے والی تھی

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ⑥

وہ تجھ سے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد جھگڑتے ⑥ تھے گویا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے موت کی طرف ہانکے جاتے

ہیں

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ

تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ⑦

اور جس وقت دو جماعتوں میں سے ایک کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ⑦
تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے جس میں کانٹا نہ ہو
وہ تمہیں ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دے
اور کافروں کی جڑ کاٹ دے

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑧

تاکہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے اگرچہ گناہگار ⑧
ناراض ہوں

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ⑨

جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا ⑨
کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے درپے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑩

اور یہ تو اللہ نے فقط خوش خبری دی تھی اور تاکہ تمہارے دل اس ⑩
سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے

۱۵ ع شک اللہ غالب حکمت والا ہے

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهَّرَ كُمْ بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝^ط
جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگھ ڈال ۝
دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے
اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو
مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ أِنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلِقِي فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝^ط
جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ۝
تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال
دوں گا سو گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝^ط

یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں اور جو ۝
کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذب
دینے والا ہے

ذَلِكَ فِدْوَةٌ لِّلْكَافِرِينَ ۚ عَذَابُ النَّارِ ۝^ط

یہ تو چکھ لو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا ^⑭
عذاب ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ^⑮
اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے ^⑮
پیٹھیں نہ پھیرو

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ^⑯ وَبئس المصير ^⑯

اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا مگر یہ کہ لڑائی کا ہنر ^⑯
کرتا ہو یا فوج میں جا ملتا ہو سو وہ اللہ کا غضب لے کر پھرا اور اس
کا ٹھکانا دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ^⑰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ^⑰ وَلِيُبْلِيَ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ^⑰ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^⑰

سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور تو نے ^⑰
مٹھی نہیں پھینکی جب کہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور
تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے بے شک اللہ
سننے والا جاننے والا ہے

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ^⑱

یہ تو ہو چکا اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ^⑱
ہے

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ

ع^{۱۱} وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ^{۱۹} ع

اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آچکا اور اگر باز آؤ تو^{۱۹}
تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی
کریں گے اور تمہاری جمعیت ذرا بھی کام نہیں آئے گی اگرچہ وہ بہت
۱۶ ع ہوں اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ^{۲۰} صلح

اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس^{۲۰}
سے مت پھرو

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ^{۲۱}

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ^{۲۱}
سننے نہیں

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ^{۲۲}

بے شک سب جانوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے^{۲۲}
گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ^ط وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ^{۲۳}

اور اگر اللہ ان میں کچھ بہلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا اور اگر انہیں^{۲۳}
اب سنا دے تو منہ پھیر کر بھاگیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ②٤

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی ②٤
طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ آدمی اور
اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور بے شک اسی کی طرف
جمع کیے جاؤ گے

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ②٥

اور تم اس فتنہ سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی ②٥
نہ پڑے گا اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے

وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فَأَوَّكِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ②٦
اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے ملک میں کمزور سمجھے ②٦
جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں پھر اس نے تمہیں
ٹھکانا بنا دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں ستھری
چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس ②۷
کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو

۱۷ء **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ** ②۸

اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ②۸
۱۷ء ہے اور بے شک اللہ کہ ہاں بڑا اجر ہے

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝** ②۹

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک ②۹
فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور
تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے

**وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ ۝** ③۰

اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر ③۰
دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں دیس بدر کر دیں وہ اپنی تدبیریں کر
رہے تھے اور اللہ ہی اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے
والا ہے

**وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ أَيُّنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ۗ إِنْ هَذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝** ③۱

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ³¹
 ہم نے سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں اس
 میں پہلوں کے قصے کے سوا اور کچھ نہیں

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَةً مِّنَ
 السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ³²

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے ³²
 تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہم پر دردناک عذاب لا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ^ط وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ³³
 اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوئے عذاب دے اور اللہ ³³
 عذاب کرنے والا نہیں درآنحالیکہ وہ بخشش مانگتے ہوں

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
 أَوْلِيَاءَهُ ^ط إِنْ أَوْلِيَاءُ هَٰؤُلَاءِ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ³⁴

اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ³⁴
 ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں اس میں تو اہل پرہیزگاری ہیں لیکن ان
 میں سے اکثر نہیں سمجھتے

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً ^ط فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ ³⁵

اور کعبہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے ³⁵
 اور کچھ نہیں تھی سو عذاب سبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُضِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی ③٦
 راہ سے روکیں سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے پھر وہ ان کے لیے
 حسرت ہو گا پھر مغلوب کیے جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی
 طرف جمع کیے جائیں گے

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۗ ﴿٣٧﴾

تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے ③٧
 پر دھر کر ڈھیر بنائے پھر اسے دوزخ میں ڈال دے وہی لوگ نقصان
 اٹھانے والے ہیں

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يُعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

کافروں سے کہہ دو اگر وہ باز آجائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں ③٨
 معاف کر دیا جائے گا اور اگر لوٹیں گے تو پہلے کافروں کے حق میں
 قانون نافذ ہو چکا ہے

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ شرک کا غلبہ نہ رہنے پائے اور ﴿٣٩﴾
سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر یہ باز آجائیں تو اللہ ان کے
اعمال دیکھنے والا ہے

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾
اور اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور بہت ﴿٤٠﴾
اچھا دوست ہے اور بہت اچھا مددگار ہے